

تیز حقائق نامہ بابت

# پیڈیاٹرک ڈینٹل کوریج



آپ کے بچے کی مسکراہٹ آپ کا دن منور کر دیتی ہے۔ ابھی اس کا خیال رکھنا صحت مند تر مستقبل کی سمت لے جا سکتا ہے۔ لیکن پیڈیاٹرک ڈینٹل پلان میں اندراج کروانے سے قبل کچھ قابل غور چیزیں ہیں۔

آپ سستی نگہداشت صحت کے حقدار ہیں۔

**NY State of Health** نیو یارک کا باضابطہ ہیلتھ پلان مارکیٹ پلیس ہے۔

آج ہی اندراج کروائیں۔

## 1 میں پیڈیاٹرک ڈینٹل کی مراعات کس طرح حاصل کروں؟

[nystateofhealth.ny.gov](http://nystateofhealth.ny.gov) پر آن لائن

- ہر کسی کو یا تو کوالیفائیڈ ہیلتھ پلان (Qualified Health Plan, QHP) کی معرفت یا تنہا پیڈیاٹرک ڈینٹل پلان کی طرف سے پیڈیاٹرک ڈینٹل کی مراعات تک رسائی حاصل ہے<sup>1</sup>۔
- اگر خاندان میں بالغوں اور بچوں دونوں کو کوریج درکار ہے تو آپ کے پاس یا تو QHP یا تنہا فیملی ڈینٹل پلان کے حصے کے طور پر فیملی ڈینٹل پلان کا اختیار موجود ہے<sup>2</sup>۔

1-855-355-5777  
پر بذریعہ فون  
TTY  
1-800-662-1220

## 2 پیڈیاٹرک ڈینٹل کوریج پر کتنی لاگت آتی ہے؟

بذات خود اعانت کنندہ سے  
[info.nystateofhealth.ny.gov/findassistor](http://info.nystateofhealth.ny.gov/findassistor)  
پر ملیں

- ماہانہ پریمیم کے علاوہ، پیڈیاٹرک ڈینٹل پلانز میں ایک سالانہ کٹوتی ہو سکتی ہے، یہ وہ رقم ہوتی ہے جو آپ کے پلان کے ذریعے کسی ایسی خدمات کا احاطہ کیے جانے سے قبل آپ کو ادا کرنا ضروری ہوتا ہے جو دیکھ بھال کی مراعات نہیں ہیں۔ کٹوتی پلان کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے۔
- پیڈیاٹرک ڈینٹل پلان میں محیط خدمات کے لیے ضمنی ادائیگیاں یا ضمنی بیمہ شامل ہو سکتا ہے۔
- تمام پیڈیاٹرک ڈینٹل پلانز میں زیادہ سے زیادہ فاضل لاگت کی حد \$350 فی بچہ اور \$700 فی فیملی ہوتی ہے۔ یہ وہ زیادہ سے زیادہ رقم ہے جو آپ کسی مقررہ کوریج سال کے دوران ادا کریں گے۔

NY State of Health قابل اطلاق وفاقی دیوانی حقوق کے قوانین اور ریاستی قوانین کی تعمیل کرتا ہے اور نسل، رنگ، قومی بنیاد، مسلک/مذہب، جنس، ازدواجی/کنہ جاتی حیثیت، معذوری، گرفتاری کے ریکارڈ، مجرمانہ سزا یا بی (سزا یا بیوں)، صنفی شناخت، صنفی رجحان، ثانوی جنینیاتی خصوصیات، فوجی حیثیت، خانگی تشدد کے متاثر کی حیثیت اور/یا انتقام کی بنیاد پر امتیازی سلوک نہیں کرتا ہے۔

<sup>1</sup> پیڈیاٹرک ڈینٹل پلانز ملک کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں۔  
<sup>2</sup> فیملی کے لیے ڈینٹل کی مراعات سے متعلق مزید معلومات کے لیے NY State of Health فیملی ڈینٹل کوریج کا حقائق نامہ (Family Dental Coverage Fact Sheet) دیکھیں۔

## تیز حقائق نامے بابت دانتوں کی نگہداشت

### 3 پیڈیاٹرک ڈینٹل پلان کن خدمات کا احاطہ کرتا ہے؟

- پیڈیاٹرک کی مراعات چار اہم زمروں پر مشتمل ہوتی ہیں: روک تھام/بنیادی، معمول، اہم، اور طبی لحاظ سے لازمی آرٹھوڈونشیا۔
- ہنگامی ڈینٹل نگہداشت بھی پیڈیاٹرک ڈینٹل پلانز کے ذریعے محیط ہے۔

خدمت کی مثالیں	زمرہ
چیک اپ، صفائی، فلورائیڈ اور سیلانٹس	روک تھام/بنیادی
معائنے، ایکسرے، آسان بھرائی اور نکالنا	معمول
منہ کی سرجری، کراؤن، مصنوعی دانت، خلاء اور روٹ کینال	اہم
دانتوں کو مضبوط بنانے میں مدد کے لیے تسمے	آرٹھوڈونشیا

- ان ڈینٹل خدمات کے ساتھ وابستہ فاضل لاگتیں پلان کے لحاظ سے بہت حد تک مختلف ہو سکتی ہیں۔
- پیڈیاٹرک کی مراعات کے لیے بچوں یا انتظار کی مدت کے لیے ڈینٹل خدمات پر کوئی بینیفٹ کیپ نہیں ہے۔

### 4 جو پیڈیاٹرک ڈینٹل پلان میرے بچے کے لیے ٹھیک ہے اسے میں کس طرح تلاش کر سکتا ہوں؟

- NYSOH کا ڈینٹل ہیلتھ پلان کمپریژن ٹول (Dental Plan Comparison Tool) آپ کو مختلف پیڈیاٹرک ڈینٹل پلانز کی لاگتوں اور مراعات کا موازنہ کرنے کی سہولت دے گا۔<sup>3</sup> اسے مارکیٹ پلیس کی ویب سائٹ پر تلاش کیا جا سکتا ہے:  
<https://info.nystateofhealth.ny.gov/resource/dental-plan-comparison-tool>
- مارکیٹ پلیس کی ویب سائٹ پر NYS پرووائیڈر اینڈ ہیلتھ پلان لک اپ ٹول (NYS Provider & Health Plan Look Up Tool) بھی ہے جو آپ کو ہر پلان میں شرکت کرنے والے ڈینٹل فراہم کنندگان کی فہرست دکھائے گا۔ اسے اس پر تلاش کیا جا سکتا ہے:  
<https://pndslookup.health.ny.gov/>

<sup>3</sup> ڈینٹل پلانز تلاش کرتے وقت، بالغوں کے لیے فائدے کی معلومات پر مشتمل فیملی ڈینٹل پلان نہیں بلکہ پیڈیاٹرک والے فائدے کی معلومات پر نظر ڈالنے کو یقینی بنائیں۔

Si usted habla un idioma diferente al inglés, los servicios de asistencia de idioma están disponibles gratis para usted. Llame al 1-855-355-5777 (TTY: 1-800-662-1220).

如果您使用的語言不是英語，您可以使用我們的免費語言支援服務。請致電 1-855-355-5777 (TTY: 1-800-662-1220)